



سوال

میں کچھ عرصہ سے اسلامی تعلیمات پڑھ رہا ہوں اور ابھی تک انہیں سیکھ ہی رہا ہوں، میرے ایک دوست نے اذکار کی ایک کتاب دی جس میں بعض آیات و سورتوں کے حوالے ہیں جن کا مجھے علم نہیں اور اس کتاب میں عربی کلمات کو لاطینی زبان میں لکھا گیا ہے: 1- سورة الحمد - 2- سورة انا فتحنا - 3- دلائل الخیرات - 4- اللہ الصمد (کیا یہ اسماء حسنی میں سے ہے یا نہ؟) 500 بار پڑھنا ضروری ہے، یا صرف اسم دعا ہے) 5- سورة عم یتساء لون - 6- آیة الکریمہ "لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" سو بار میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالنص انگلش میں لکھیں، اور یہ کونسی سورتہ میں ہے؟ گزارش ہے کہ جواب انگلش میں دیں اور جو مصحف میرے پاس ہے وہ 114 سورتوں میں مقسم ہے نہ کہ 30 میں؟

جواب

الحمد لله

آپ نے جن سورتوں کے متعلق سوال کیا ہے ان مشہور نام اور آیت نمبر مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- سورة الحمد سورة الفاتحة ہے جو کہ ایک نمبر سورة ہے
 - 2- سورة انا فتحنا کا نام سورة الفتح اور نمبر 48 ہے۔
 - 4- اللہ الصمد کا نام سورة الاخلاص اور نمبر 112 ہے
 - 5- سورة عم یتساء لون کا نام سورة النبا اور نمبر 78 ہے۔
 - 6- "لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" یہ آیت سورة (21) الانبیاء کی آیت نمبر 78 ہے۔
- اس کے بعد آپ کو مندرجہ ذیل تنبیحات کی جاتی ہیں:

پہلی:

کتاب دلائل الخیرات میں حق کے منافی امور اور موضوع و ضعیف احادیث پائی جاتی ہیں لہذا اس کتاب پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری:

انگلش یا دوسری زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ قرآن نہیں کہلاتا اور نہ ہی وہ قرآن کے حکم میں آتا ہے بلکہ وہ تفسیر کی مثل ہے، اور قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی مبین میں نازل کیا گیا ہے۔

تیسری:



الاحد اور الصمد اسماء حسنی میں سے دو عظیم اسم ہیں۔

چوتھی :

سورۃ قل هو اللہ احد 500 بار پڑھنے میں اور (لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) 1000 ہزار بار پڑھنے میں عدد کی تعیین کتاب و سنت میں وارد نہیں تو اس تعداد کا التزام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ اس سورۃ اور آیت میں وہ عمل کریں جو کہ سنت صحیحہ میں وارد ہے۔

سورۃ الاخلاص کی فضیلت :

قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص رات کو قیام میں صرف قل هو اللہ احد پڑھتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتا تھا تو صبح کے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا اور گویا کہ سائل نے اس سورۃ کو قلیل جانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیشک یہ سورۃ مثلث قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری (4627)۔

اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ :

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کو قیام میں صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھتا ہے، گویا کہ (سائل نے) اسے قلیل جانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے : اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیشک یہ سورۃ مثلث قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد (10965)۔

اور ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا : کیا تم میں کوئی ایک رات میں مثلث قرآن پڑھنے سے عاجز ہے، تو یہ بات صحابہ پر گراں گزری اور وہ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ ایک ہی رات میں مثلث قرآن پڑھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ الواحد الصمد مثلث قرآن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (4628)۔

اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک کر سر اور پھر سے شروع کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا اسے تین بار پھیرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (4630)۔

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھانا اور اس میں ہر رکعت قل هو اللہ احد پر ختم کرنا، جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے اسے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لیے کرتا تھا، انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ یہ رحمن کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لگے کہ اسے یہ بتا دو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (6827)۔

عبدالرحمن بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تروں میں سج اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے اور تروں سے فارغ ہو کر تین بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار آواز اونچی رکھتے۔ سنن النسائی حدیث نمبر (1721)۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ فرماتے لگے اے عقبہ بن عامر کیا میں تمہیں ایسی سورتیں نہ سکھاؤں جو کہ نہ تو توراہ اور نہ ہی انجیل اور نہ ہی زبور اور نہ ہی فرقان میں ان کی مثل نازل کی گئی ہے، تو انہیں ہر رات پڑھا کرو سورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔



عقبتہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں انہیں ہر رات پڑھا کرتا تھا اور حق بھی یہی تھا کہ کسی بھی رات نہ چوڑوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر (16810)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قتل ہوا اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ واجب ہوگئی، تو صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہوگیا، نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ مسند احمد حدیث نمبر (7669)۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :

جس نے دس مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر (6472)۔

تو آپ تعداد اور وقت کی تعیین یا کیفیت کی تحدید کیے بغیر جو کہ شریعت میں وارد ہی نہیں جتنی تعداد میں چاہیں پڑھیں۔

اور سورۃ الانبیاء کی آیت (لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) کی فضیلت میں درج ذیل فضیلت وارد ہے :

سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی "لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" جو کوئی بھی یہ دعا کسی چیز کے بار میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر (3427) اور صحیح الجامع (3383) میں اسے صحیح کہا ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آجائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

مسند رک حاکم اور صحیح الجامع (2605) میں بھی یہ حدیث ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ اور سب مسلمان بھائیوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برسائے۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔